

Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Singapore Lee Hsien Loong participate in the Virtual Launch of UPI-PayNow Linkage between India and Singapore

February 21, 2023

وزیر اعظم نریندر مودی اور سنگاپور کے وزیر اعظم لی سین لونگ نے ہندوستان اور سنگاپور کے درمیان یو پی آئی سے ناؤ لنکیج کے ورچوئل لانچ میں شرکت کی

فروری 21 2023

وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور سنگاپور کے وزیر اعظم جناب لی سین لونگ نے ہندوستان کے یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس (یو پی آئی) اور سنگاپور کے پی ناؤ کے درمیان ریئل ٹائم پیمنٹ لنکیج کے ورچوئل لانچ میں حصہ لیا۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر جناب شکتی کانت داس اور سنگاپور کی مانیٹری اتھارٹی کے منیجنگ ڈائریکٹر جناب روی مینن نے اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے سے براہ راست سرحد پار لین دین کیا۔

سنگاپور پہلا ملک ہے جس کے ساتھ کراس بارڈر پرسن ٹو پرسن (پی 2 پی) ادائیگی کی سہولت شروع کی گئی ہے۔ اس سے سنگاپور میں ہندوستانی تارکین وطن، خاص طور پر تارک وطن ورکروں/طلباء کو مدد ملے گی اور ڈیجیٹلائزیشن اور فن ٹیک کے فوائد کو سنگاپور سے ہندوستان اور اس کے برعکس رقم کی فوری اور کم لاگت میں منتقلی کے ذریعے عام آدمی کو فائدہ پہنچا یا جاسکے گا۔ کیو آر کوڈز کے ذریعے یو پی آئی ادائیگیوں کی قبولیت سنگاپور میں منتخب مرچینٹ اوٹ لیٹس پر پہلے سے ہی دستیاب ہے۔

ورچوئل لانچ سے پہلے دونوں وزرائے اعظم کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہند-سنگاپور تعلقات کو آگے لے جانے کی خاطر شراکت داری کے لئے وزیر اعظم لی کا شکریہ ادا کیا اور ہندوستان کی جی 20 صدارت میں ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔

نئی دہلی

فروری 21 2023

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.